



کیا جاتی جلدی پرو



انشيد الأطفال

کيکا بھائي جلدی پڑھو

(۱)

جہز هذا الكتاب ، وسجلت هذه الشريطة في معهد الزهراء سورت
باذن الداعي الفاطمي سيدنا ومولانا أبي القائد جوهر محمد برهان الدين^ع
أعانتا في التجهيز طلاب الجامعة السيفية

عربي زبان قرآن مجید فی زبانِ چھے ، ترنا اوپر اپنا نوالو فی تریبہ قہائی۔ ایم مولانا محمد برهان الدین طع
فی خوشی مبارک چھے اقامولی طع فرماوے چھے

"مؤمنین فی جماعہ ہوئے خدا تمہنے توفیق آپے تو عربی زبان ماہی بولو۔ جتو امکان قہائی"

اکیست انے کتاب مؤمنین نا فرزند و واسطے۔ معهد الزهراء ما الداعي الاجل سيدنا محمد برهان الدین طع فی
بزرا مبارک سی تیار قہئی چھے۔ فرزند و کھیلتا کھیلتا عربی زبان سنے توائنے بی زبان سی انسه قہئی جائی۔
مہوتا قہائی قرآن مجید فی تلاوہ کرے ، الداعي الاجل سيدنا محمد برهان الدین طع فی وعظ سنے۔

أمثل فی تریبہ نا سب اہنے ہر جگہ مدد ملے

طبع بمناسبہ ذکری الداعي الاجل سيدنا طاہر سیف الدین رض غرة شهر شعبان الکریم ۱۴۲۴ھ فی سورت

A decorative border composed of numerous brush strokes in various shades of blue and green, arranged in a circular pattern around the central text. The strokes vary in length and intensity, creating a textured, artistic frame.

الجانب الاول

علم ناموتی جڑو
پڑھوانی ہٹ نہ کرو
اپنا ملاسی ڈرو
کیکا بھائی جلدی پڑھو
کھونز چھونز تھوڑا کلام
مارا مولیٰ چھے امام
ترنا ہاتھے چھے نہ رام
کیکا بھائی جلدی پڑھو

الداعي الاجل سيدنا عبد علي سيف الدين مرض يرا كلام اپنا شهزادة
الداعي الاجل سيدنا محمد بدر الدين مرض چھونا ہتا تر وقت لکھی فرمایا تھا

الحمد لله رب العالمين

الداعي الاجل سيدنا طاہر سيف الدين اقا مرض فرماوے چھے

نَحْمَدُهُ عَلَى جَلِيلِ نِعْمَتِهِ

نَشْكُرُهُ عَلَى جَزِيلِ مَنِّتِهِ

خدا نے نعمتوں پر خدا نو حمد کرے چھے

اھنا احسانوں پر اھنو شکر کرے چھے

اقا مولیٰؑ ہر عمل ، ہر بیان ، ہر فعل خدا نا

حمدانے خدا نا شکر سی شروع کرے چھے .

اکتاب خدا نے خدا نا داعیؑ نا حمد سی شروع کرے چھے

محبة

عَلِيٌّ حُبُّهُ جَنَّةٌ
قَسِيمُ النَّارِ وَالْجَنَّةِ
وَصِيُّ الْمُصْطَفَى حَقًّا
إِمَامُ الْإِنْسِ وَالْجَنَّةِ

اميرالمومنين ص ع في محبة جهنم في آگ سي ڈھال هے ، جنه ماكون جائی ، انے جهنم ماكون جائی ، ترنوفیصله آپ کرے هے . مصطفی نا آپ وصی هے انس انے جن نا آپ مولی هے

"أَدَّبُوا أَوْلَادَكُمْ عَلٰی حُبِّ عَلِيٍّ ص ع"
فرزند و فی تربیه امیرالمومنین ص ع فی محبة پر کرو

والمطر من الله

الْوَلَدُ يُبْغِي اللَّبَنَ

وَاللَّبَنُ مِنَ الْبَقَرِ

وَالْبَقَرُ يُبْغِي الْحَشِيَّ

وَالْحَشِيَّ مِنَ الْمَطَرِ

وَالْمَطَرُ مِنَ اللَّهِ



اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

حشي :- گھاس Grass

بني :- طلب کرے مجھے

الداعي الاجل سيدنا طاهر سيف الدين مرضير بعض سبق ما انشيد فرزند ونه پڑھی ساوي قهي
قال الله سبحانه "وما بكم من نعمة فمن الله" تمارا ترديدك جبرهي نعمة مجھے تر خدا طرف سي مجھے .
رسول الله صلح دودھ پيتي وقت ادعاء في تلاوة كرتا اللهم بارك لنا فيه وزيده لنا منه

الديك



الدِّيكُ فِي الصَّبَاحِ يَصِيحُ فِي البَطَاحِ
 يَقُولُ فِي انشِرَاحِ حَيَّ عَلَى الفَلَاحِ
 قُمْ وَاصْحَ يَا نَعْسَانَ قُمْ وَاعْبُدِ الرَّحْمَنَ
 تَمَّ اسْعَ فِي اطْمِئنانِ لِلرِّزْقِ يَا اِنْسَانَ

امام عم فرماوے ہے دیک یعنی مرغہ) فجر ناوقت انسان نے خدائی عبادہ کروا واسطے نیند سی جگاوے ہے .

الصباح :- فجر نووقت (Morning) ، یصح :- چہنچہ ہے (Announces) ، بطاح :- زمین ما (in the open) .

نعسان :- سونا ر شخص (Person Sleeping) ، اسع :- کوشش کر (Work)



اجلس

اجلس حبيبي اجلس

اجلس حبيبي اجلس

هَذَا الْقُرْآنَ فَاقْرَأْ

كُلْ يَا حَبِيبِي كُلْ

كُلْ يَا حَبِيبِي كُلْ

وَأَبْدَأْ بِبِسْمِ اللَّهِ

إِضْحَكْ حَبِيبِي إِضْحَكْ إِضْحَكْ حَبِيبِي إِضْحَكْ

وَالْعَبْ مَعَ الْإِخْوَانِ

نَمْ يَا حَبِيبِي نَمْ نَمْ يَا حَبِيبِي نَمْ


يَا عَلِي يَا عَلِي

اجلس :- بينهو (Sit) ، فاقراً :- تلاوة كرو (Recite) ، كل :- جو (Eat)

وابدء :- شروع كرو (Start) ، اضحك :- هسو (Laugh) ،

والعب :- كهيلو (play) نم :- سوو (Sleep) ،

الفطور



الفُطُورُ حَاضِرٌ الفُطُورُ حَاضِرٌ
فَضَّلُوا فَضَّلُوا فَضَّلُوا إِلَى السُّفْرَةِ
وَ كَلُّوا مَرَحَبًا مَرَحَبًا مَرَحَبًا

فطور :- ناشتہ Breakfast

امام ع م فرماوے چھے کہ فجر ما ناشتہ جلدی کرو و جوئیے - سیدنا طاہر سیف الدین مرض
فرماوے چھے کہ فجر ما جن نال قما و جسم واسطے کھیلا نی مثل چھے

بِسْمِ اللّٰهِ نِي بَرَكَةٌ



أَهْلًا أَهْلًا عِنْدَنَا خُبْزٌ
أَهْلًا أَهْلًا عِنْدَنَا لَحْمٌ
هَيَّا كُلُوا هَيَّا اشْرَبُوا

خبز: - پاؤ (Bread) ، لحم: - گوشت (Meat)

كلوا: - کھاؤ تمیں سگلا ، اشربوا: - پیوؤ تمیں سگلا

هَيَّا إِلَيْنَا عِنْدَنَا شُكُوكَات

وَبِسْمِ اللّٰهِ

عِنْدَنَا بَرَكَات

هَيَّا كُلُوا هَيَّا اشْرَبُوا

مؤمن نے جمار و اما گھنوثواب چھے

جن پر بسم اللہ پڑھو اسی بیمار یود ویر تھائی چھے

سیدی صادق علی صاحب قس فرماوے چھے

فہیں پیٹ مادر داوے کوئی نا

جو بسم اللہ بولی نے لیسے نوالو

عدد



أنا

رُحْتُ إِلَى السُّوقِ إِلَى السُّوقِ إِلَى السُّوقِ
أَكَلْتُ شُوكُولَاتٍ شُوكُولَاتٍ شُوكُولَاتٍ
اشْتَرَيْتُ مَنَدِيلًا مَنَدِيلًا مَنَدِيلًا

بکم فلوس؟ بکم فلوس؟



اثنین



واحد



أربعة



ثلاثة



سِتَّة



خَمْسَة



ثَمَانِيَة



سَبْعَة



أَم عَشْرَة



تِسْعَة

نَعَم نَعَم نَعَم عشرة رُوبِيَة عشرة رُوبِيَة عشرة رُوبِيَة عشرة رُوبِيَة

فلوس :- رُوبِيَة

السوق :- بازار Market place

عدد (گنتی) نوعلم تمام علم نواصل ہے

خدا تعالیٰ ایک ہے ، لا الہ الا اللہ یعنی انتہی کوئی خدا مگر اللہ ہے

أُخْتِي فَاطِمَةَ أَيْنَ يَدُكَ



يَدِي عَلَى رَأْسِي

يَدِي

عَلَى


عَيْنِي



يَدِي عَلَى أَنْفِي

يَدِي عَلَى فَمِي

يَدِي عَلَي اَذْنِي



يَدِي عَلَي خَدِّي

يَدِي :- مارو هاتھ (Hand) ، رَاسِي :- مارو ماڻھو (Head) ، عيني :- ماري آنکھ (Eyes)
انفي :- مارو ناڪ (Nose) ، اذني :- مارو کان (Ears) ، فمي :- مارو منھ (Mouth)
خدي :- مارا گال (Cheeks)

خدا تعالیٰ ڀر انسان ناهر عضو پر ايمان فرض ڪيو ڇو . هاتھ سي حسين امام ع م نوماتم ڪريڻ .
آنکھ سي مولیٰ نے دیکھا ڪريڻ ، کان سي مولیٰ نوا انرستار هيڻ ، منھ سي اهني ذکر ڪر تار هيڻ .

الوجه

بُنِيَّتِي بُنِيَّتِي تَعَالِي تَعَالِي قُولِي هَكَذَا

فَمِي تَحْتَ اَنْفِي وَالْاَنْفُ تَحْتَ الْعَيْنِ

وَالْعَيْنُ تَحْتَ الشَّعْرِ وَفَوْقَهُ الْخِمَارُ

فَاَيْنَ الْفَمِ ؟



فَمِي تَحْتَ اَنْفِي



شعر:- بال (Hair) خمار:- اورثي (Veil)

قولي:- كهو say تحت:- نيچے underneath

فَايْنَ الْأَنْفَ ؟



أَنْفِي



تَحْتَ عَيْنِي

فَايْنَ الْعَيْنَ ؟

عَيْنِي تَحْتَ شَعْرِي

فَايْنَ الشَّعْرَ ؟

شَعْرِي تَحْتَ الْخِمَارِ

كرة القدم



هَيَا بِنَا هَيَا بِنَا
هَيَا بِنَا هَيَا بِنَا


نَلْعَبُ كُرَّةَ الْقَدَمِ
فِي الْمَطَرِ فِي الْمَطَرِ

نَلْعَبُ :- كھیلے اپنے lets play كرة القدم :- Football

كھیلو اسی انے ریاضة Excercise كرو اسی انسان نے تازگی ملے چھے۔
تندرستی ملے چھے۔ جہر ناسی حق نا دھنی نی خدمہ کروا ممد ملے چھے

اجتهد

هَذِهِ الْبَقْرَةُ
بَيْنَنَا جَلَسَتْ



كُلَّ يَوْمٍ أَكَلَتْ هَذِهِ الْبَقْرَةُ



أَيُّهَا الْوَلَدُ

اجتهد اجتهد

البقرة:- گائى (Cow) ، بيننا:- همارادرميان ، جلست:- بينهي گي (Sat) ،

اكلت:- جتي هي (Ate) ، اجتهد:- اجتهاد ، محنه كرتو (Work Hard)



لَدَّةٌ
فَجِدْ

أَيُّهَا الْوَلَدُ



من جَدُّ وَجَدْ :- بحنہ انے اجتہاد کروا سی ۽ امید و پوری

تھائی ہے


طائرة



لَيْتَا لَيْتَا طَائِرَةٌ نُطِيرُ

لَيْتَا لَيْتَا طَائِرَةٌ نُطِيرُ

نَكُونُ فِي الْهَوَى فِي أَعْلَى السَّمَاءِ



عِنْدَنَا الْجَوَازَاتُ
بِالطَّائِرَةِ نَطِيرُ
القَاهِرَةَ نَصِيرُ

طائرة نطير:- Fly a plane: سماء :- آسمان جوازات :- Passport

بِالطَّائِرَةِ نَطِيرُ:- Fly in a plane:

المعزية القاهرة ما الامام الحسين ع م ناراس مبارك مدفون حجه



انسِيَة بنتُ

نَسِيْتِ وَرْدًا

تُبْكِي وَتُبْكِي نَسِيْتِ وَرْدًا

اعطوها وَرْدًا اعطوها وَرْدًا

اليَوْمَ مِيْلَادُ امِّهَا ، خُذِي ذَا الْوَرْدِ اعْطِيهَا

انسِيَة بنتُ وَجَدَتْ وَرْدًا

فَرِحَتْ فَرِحَتْ وَجَدَتْ وَرْدًا



مواہی طاہرین ص ع سی بیان ہے کہ مؤمن نادل نے خوش کروا ما گھنوثواب ہے
انے ہدیة اپواسی محبة زیادة تھائی ہے .

وردا :- پھول ، تبکی :- مروٹی ہے ، نسیت :- بھولی گئی ، فاعطوها :- پچھی اپواہنے ،

امها :- اہنامانہ ، خذی :- لوتمیں ، فرحت :- خوش تھی گئی

نم آمنا



إِنَّ الْفِرَاشَ النَّاعِمًا فِيهِ تَنَامُ دَائِمًا
نم يا حبيبي سألما نم آمنا نم آمنا

رَاحَ النَّهَارُ وَاحْتَجَبَ
مَعَهُ الْعَنَاءُ وَالتَّعَبُ

فراش :- بیچھونو، تنام :- سوؤ چھوتمیں، راح النهار :- ڈھلی گیودن
عناء :- درد، تعب :- تھکان

وَاللَّيْلِ بِالْأَمْنِ اقْتَرَبَ نَمِ آمِنًا نَمِ آمِنًا

بَاتَتْ عَصَافِيرُ الْغَرْدِ

فِي حِفْظِ مَوْلَانَا الصَّمَدِ

مَنْ لَيْسَ يَغْفُلُ عَنْ أَحَدٍ نَمِ فِي حِمَاةِ آمِنًا

نَمِ آمِنًا حَتَّى السَّحَرِ مِنْ كُلِّ ضَمِيمٍ أَوْ كَدَرِ

نَمِ فِي حِمَى بَارِي الْبَشَرِ

نَمِ فِي حِمَاةِ آمِنًا

والليل:- رات ، بالامن:- امان ساتھ ، اقترَب:- نزدیک تھی ہے باتت:- سوئی گیا ،

مولانا الصمد:- خدا تعالیٰ ضمیم:- تکلیف ، کدَر:- درد

من لیس یغفل عن احد:- جہ خدا انتھی غافل تھا تا کوئی ایک سی

نیند انسان واسطے خدا تعالیٰ فی نعمۃ ہے . خدا تعالیٰ فرماوے ہے :- وجعلنا نومکم سباتا

ہمیں یہ تماری نیند نے مراحتہ نو سبب کیدو ہے

اعِيذُكُمْ

بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ
مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ
وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ

رسول اللہ صلعم آپ نے نواسہ امام حسن انے امام حسین ص ع نے امثل سی تعویذ کرتا
خدا تعالیٰ خمسہ اطہار ص ع انے داعی الزمان طع نا وسیلہ سی
اپنا فرزند ونے ہرافہ سی پناہ کرے

محمد
صلى
الله
عليه
وسلم

و
عيسى
بن
مريم

لي خمسة أطفئ بها


حرَّ الجحيمِ الحاطمةِ
الوباءِ

المصطفى والمرضى

وابنائهما والفاطمة

اطفئ بها :- بھٹاؤ چھوڑ میں ترسب سی ، حر الجحیم :- جہنم فی گرمی نے ،

پنجتن پاک سرخ نا ولرث امام الزمان عم ناداعی سیدنا محمد برهان الدین اقطاع ہے .
اپنی محبت نا سبب مؤمن نے پنجتن فی شفاعت نصب ہے .



حَسْبِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ
وَ عَلَيْهِ تَوَكَّلِي
أَمَلِي الْمُصْطَفَى الَّذِي
هُوَ لِي بِالْمُنَى مَلِي

منے خدا تعالیٰ پرانے اہنا داعی پر توکل چھے ، بھروسو چھے ،
خدا تعالیٰ ہر امر ما کفایہ کری اُسے ،

الجانب الثاني

طلع البدر علينا

طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا
وَجَبَّ الشُّكْرُ عَلَيْنَا
أَيُّهَا الْمَبْعُوثُ فِينَا
جِئْتَ شَرَفْتَ الْمَدِينَةَ
مِنْ تَنْبِاتِ الْوَدَاعِ
مَا دَعَى اللَّهُ دَاعٍ
جِئْتَ بِالْأَمْرِ الْمُطَاعِ
مَرْحَبًا يَا خَيْرَ دَاعٍ

بدر:- چندرما Full moon

رسول اللہ صلعم جب وقت کرمکة المکرمة سی المدینة المنورة ہجرۃ کرمی نے پدھارا تو مدینہ نا لوگویر اپنو ابیات پڑھی نے استقبال کیدو ، سگلا عرض کرے چھے . . رسول اللہ صلعم پدھارا چھے

ہمارا اوپر چندرما طلوع تھیا چھے

اقامولی طمع نور روشن چھرو چندرمانی مثل چمکے چھے



يا الهي يا الهي

اٰمِنَحِ الْعُصْفُوْرَ رِيْشًا

وَكَذَا الْيَنْبُوْعَ مَاءً

وَاٰمِنَحِ الْحُمْلَانَ صُوْفًا

وَالْفَضَا طَلَّ السَّمَاءِ

وَارْزُقِ الْمِسْكِيْنَ قُوْتًا

وَاجْعَلِ الْمَآسُوْرَ حُرًّا

وَاٰمِنَحِ الْاِيْتَامَ مَآوِي

اَنْتَ وَهَابٌ كَرِيْمٌ

وَاٰمِنَحِ الْمَرَضِيَّ الشِّفَاءِ

يَتَّجِهْ حَيْثُ يَشَاءُ

وَذَوِي الْاِيْسِ الرَّجَاءِ

اَنْتَ يَنْبُوْعُ السَّخَاءِ

امنح :- بخش تو المأسور :- قیدی ایتام :- یتیمو ینبوع السخاء :- سخاوة نوحشمه

سیدی صادق علی صاحب قس فرماوے چھے کر :-

مؤمن اوپر چھے مؤمن نا حق یا روپے شمار گر کئی نرفتمی سکے تو چھے واجب دعاء کرے

فراشات



نَحْنُ الْفَرَّاشَاتُ



نَحْنُ الْفَرَّاشَاتُ


هَيَّا بِنَا نَلْعَبُ

نَحْنُ الْجَمِيلَاتُ

فِي فُسْحَةِ الْحَقْلِ

وَنَطِيرُ فِي الشَّمْسِ

نَحْنُ الْجَمِيلَاتُ



وَنَحُطُّ فِي الظِّلِّ

وَنَمُصُّ أَرْهَارًا كَجَمَاعَةِ النَّحْلِ




وَلَهَا مُكَافَأَةٌ

هَيَّا بِنَا نَجْرِي لِئِنِّي تَسْبِقُ

هَيَّا بِنَا هَيَّا


هِيَ وَالَّتِي تَلْحَقُ



butterflies:- فراشات


beautiful :- جميلات

خدا تعالیٰ جمیل چھے جمال پسند کرے چھے





الْأَطِيرِي الْأَطِيرِي وَعَتِي يَا عَصَافِيرِي



لَدَيْكَ الْمَاءُ وَالْحَبُّ

لَدَيْكَ الْحَقْلُ وَالْعُشْبُ

وَعِنْدَكَ جَوْكُ الْوَاسِعِ فَطِيرِي يَا عَصَافِيرِي

طيري :- اړوتمیں fly عسافيري :- my sparrows

حَب :- seeds جوك :- تماري فضاء آسمان your sky, air

بِلا خَوْفٍ مِّنَ الصَّيِّدِ

تَعَالَى رَفْرَفِي عِنْدِي

فَغَنِي يَا عَصَافِيرِي

فَإِنِّي لَسْتُ صَيَّادًا

وَبَيْنَ الرِّيشِ وَالْقَشِّ

فِرَاخِكَ دَاخِلَ العُشِّ

فَطِيرِي يَا عَصَافِيرِي

تَنَامُ وَلَسْتُ أُمْسِكُهَا

وَتَلْعَبُ لُعْبَةَ الطَّيْرِ

تَعَالَى لِحِظَّةِ نَجْرِي

وَطِيرِي بَعْدَ هَا طِيرِي

وَعَنِي يَا عَصَافِيرِي

لست صيادا:- میں شکاری نہی hunter

فراخ:- عصفور ناچاؤ، عش:- nest

تنام:- سوئی جاؤ تمیں۔

ولست أمسکها:- میں ترچاؤ نے پکڑنا نہی۔

رسول اللہ صلح فرماوے ہے

الْخَلْقُ عِيَالُ اللَّهِ وَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ أَنْفَعُهُمْ لِعِيَالِهِ

خدا تعالیٰ نے وہ لوگو گھنا زیادہ پسند ہے جسے

اہنا خلق واسطے زیادہ فائدہ کرنا رہوئی

امی



أُمِّي كَمْ أَهْوَاهَا
أَشْتَاقُ لِمَرَّأَهَا
وَأَحْزَنُ لِقَافَاهَا
وَأَقْبَلُ يُمْنَاهَا

أُمِّي هِبَةُ الرَّحْمَانِ
أَتَعَطَّرُ بِشَدَاهَا
يَبْدُو فِي الْوَجْهِ النَّوْرِ
وَضِيَاءٌ يَغْشَاهَا

أُمِّي هِيَ تَبْعُ حَنَانِ
وَالرَّوْحُ كَذَا الرِّيحَانِ
أُمِّي يَأْكُلُ الْحُبَّ
أُمِّي فَرِحَ وَسُرُورِ

امی :- مارا مانہ my mother ، کم اہواہا :- اہنے گھنی محبہ کروں چھونہ I love her very much

اتعطر :- خوشبو لگاؤ چھونہ میں ، امی فرح و سرور :- مارا مانہ ہمیشہ خوش رہے ہے

جنہ مانہ نا قدم نانیچے ہے اپن ہر نماں ما اپنا مانہ انے باوا نا حق ما دعاء کرئیے ہے

اللہم اغفر لی ولوالدی و لرحمہما کما یرہانی صغیرا ، اقامولی طع اپنا حقیقی مانہ انے باوا ہے

طیور



تَرْتَمَّتْ طُيُورٌ

فَرِحَانَةٌ بِالنُّورِ

تَقُولُ فِي سُرُورٍ

مَا أَجْمَلَ الضِّيَاءِ

وَالْحَقْلُ وَالزُّهُورُ

وَالنَّهْرُ وَالْعَدِيرُ

وَالشَّاءُ وَالْبَعِيرُ

وَالْأَسَدُ وَالنَّمُورُ

تَقُولُ فِي سُرُورٍ

مَا أَجْمَلَ الضِّيَاءِ

ترتمت: - غنہ کیدو ، طیور: - پرند اوئیر (Birds) ،

فرحانہ: - خوش تھا تا هوا ، سرور: - خوشی سی

الضیاء: - روشنی ، الحقل: - کھیت (Fields) ،

الزہور: - پھولو (Flowers) ، غدیر: - تالاب (Lake) ،

شاة: - بکری (Goats)

بعیر: - اونٹنہ (Camels) ، والأسد: - شیرو (Lions) ،

والنمور: - (leopard)

خلقہ خدانی گویا خدا نو کتاب چھے « عاقل نے یہ گھنے کہ مطالعہ کرا کرے

نشيد دودة القز




سَرَّنِي فَصْلُ الرَّبِيعِ
إِنَّهُ فَصْلٌ بَدِيعٌ
فَصْلٌ خَصْبٌ وَنَمَاءٌ
وَاعْتِدَالٌ وَبَهَاءٌ

تُورِقُ الأشجارُ فيه فهو عيدٌ نرتجيه

شجرُ الثوتِ جميل وله ظلٌّ ظليل

فيه أوراقٌ نضيرة فوق أغصانٍ كثيرة



وهي لي نعمة الغذاء

في صباحٍ ومساء

صنعتي نسج الحرير ليس لي فيها نظير

إنَّ شكلي لغريب إنَّ فتني لعجيب

عربی زبان ما ربیع نی معنی بہار نی ہے ، اقامولی فرماوے ہے

کہ فصل الربیع ما نہوہور ، پھولو کھلے ہے ، سگلا ثمرات ،

پھولو او شروع فہائی ہے . . . دنیا نا لوگو جہ وقت

ربیع نی موسم اوے ہے تو عید الربیع مناوے ہے ، یر ، مثل

مؤمنین تمیں ربیع الاول انے ثانی ما عید نا احتفال کرو چہو .

انشید ما دودۃ القذ (Silk Worm) ربیع نامہینہ

نوشکر کرے ہے . مؤمن یر : مثل اقامولی طع نوشکر کرے ہے

حریر :- ریشم silk ، **لیس لی فیہا نظیر :-** ماری مثل ریشم کوئی بنا ونا رنتھی

الحقل



يا حَقْلِي الْغَالِي يا مَثِيَّتِ الْحَبِّ يا أَصْلُ نِعْمَتِنَا أهْوَكَ مِنْ قَلْبِي
 هي نَظَّفَتْ أَرْضِي وبها نَمَّا عَرْسِي يا حَقْلِي الْغَالِي في هَذِهِ الْفَأْسِ
 حَمْدًا لِخَالِقِنَا شُكْرًا لَهُ شُكْرًا أَعْطَيْتَنِي الْخَيْرَا

رسول اللہ صلع فرماوے ہے کہ "الارض انکم وهي بکم برة"، زمين تمہاری ماں ہے انے پر تمہارو بھلو کرنا ہي ہے۔

حقل:- کہی فی زمين فأس:- کلہاڑی نما:- ودھی أهواك:- محبہ کروڑ چھوڑ میں عرسِي:- ماہی کہی

المدرسة



رسول الله صلح فرماوے چھے
طلب العلم فريضة على
كل مسلم ومسلمة
 علم طلب کروؤ هر۔

مسلم انے مسلمة پر فرض چھے
 مؤمن ني تربیة ناچار مرکز چھے ،
 منزل مسجد مدرسة مجتمع ،
 مدرسة ما اپنے مولیٰ ني نرئاسی
 دنیا انے آخرة نو علم پڑھئیے چھے

مَدْرَسِي يَا مَدْرَسِي
 أَنْتِ بَقَائِي يَا مَدْرَسِي
 يَا مَدْرَسِي لَنْ أُنْسَاكَ
 لَنْ أُنْسَى عَلَى مَرْسِينِ
 فَوَدَاعًا لَا بَلْ فَسَلَامٌ
 يَا أَهْلِي مِنْ كُلِّ مَكَانٍ
 فَرَعَاكَ اللَّهُ وَزَيْنَكَ بِرَبِيعِ
 عُلُومِ الْقُرْآنِ
 آمينى :- ماري اميد۔

لن انساك :- نھیں بھولون میں احلی :- نرپاڈا مپتھو

صَلَوَةُ اللَّهِ سَلَامُ اللَّهِ عَلَى طه رَسُولِ اللَّهِ

صَلَوَةُ اللَّهِ سَلَامُ اللَّهِ

عَلَى يَاسِينَ حَبِيبِ اللَّهِ

وَرَحْمَةً مُصْطَفَى فِينَا مِنَ الْأَمْرَاضِ يَشْفِينَا

إِلَى الْجَنَّاتِ يُنْجِينَا

فَدُمُّ فِي الْيَمَنِ دَاعِينَا

لِشُرْبِ النَّعْلِ نَلْتَمُهُ وَبِالْإِنْفُسِ نَخْدِمُهُ

وَحَبْلَ الْحَبِّ نَلْزِمُهُ وَمَدْحَ الْوُدِّ نَنْظِمُهُ

صلوات پڑھو اسی ہر دعاء قبول تھائی ہے ، صلوات پڑھی نے خدا تعالیٰ نے عرض کرے ہے کہ خدا تعالیٰ اقا مولیٰ فی عمر شریف نے قیامتہ نادن لگ دہلہ کرے آمین

الاطفال والعصفور



الأطفال:-

إيها الطير الصغير

مرحباً أهلاً وسهلاً

ها قد اصطدناك عفواً



لا تخف سوء المصير

والعصفور:- كيف تخلو لي الحياة

إتني عبد أسير

ليس لي إلا الممات أه لو كنت أطيّر



تخلو:- مينهي هائي، لو كنت اطيّر، -كاش كرمين أُرّي سكتي





الأطفال:- لا تحف سوءاً فاتاً

قد كلفنا بالطيور

عش عزيزاً بحمانا

تجتن الخير الغزير

والعصفور:- بعد ما اذيتموني

هل تحبون الطيور؟

سرحوني اغتقوني

استطب طعم السرور

الأطفال:- في حمانا لست تحشى

من اذى جوع يضير

عندنا ما تشهيه

من شراب و بذور

والعصفور:- قد براني الله حراً

مسرحي بين الرياض

فارحموني ان رأيتم

ارسلوني في الغياض

الأطفال:- قد رحمتك فبادر

طائراً حيث نشاء

واذكر الإحسان غرد

شاكراً رب السماء

رسول الله صلح رحمة للعالمين ہے، خدا بے رحمتی چیز پیدا کی ہے تمہارا اور اپنی انے آپ نا داعی فی رحمة عام ہے





الرَّاعِيُ - : غَنَمِي غَنَمِي مَا أَجْمَلَهَا
 سِيرِي سِيرِي تَحْوَ الْمَرْعَى
 فِي مَوْقِفِهَا تَحْتَ الشَّجَرِ
 وَاجْرِي وَاجْرِي فَوْقَ الْخَضِرِ
 الغنم - : ذئب يعوي في وادينا
 أسرع أسرع يا راعينا





إِنْ لَمْ تُسْرِعْ قَدْ يُؤْذِنَا

أَسْرِعْ أَسْرِعْ يَا حَامِينَا



الرَّاعِي: - هَيَّا هَيَّا فَانَا حَاضِر

أَيْنَ الذِّئْبُ أَيْنَ الْغَادِرِ؟



الْغَنَم: - هَرَبَ الذِّئْبُ هَرَبَ الذِّئْبُ

هَيَّا نَرَعِي فَهِنَا الْعُشْبُ



غشی: - my sheep ، الذئب: - wolf ، مراعینا: - ہمارو خیال راکھنا

ان لم تسرع: - جو جلدی نہیں کرو ، حامینا: - ہمارے حفاظت کرنا


موسیٰ نبی اپنا غنم نی گھنی فکر راکھتا۔ مولانا محمد برہان الدین طع نا غنم مؤمنین چھے
 آپ مؤمنین نی گھنی فکر راکھے چھے دنیا نا گرم ہون سی بچاوے چھے جنت نی طرف
 چلاوے چھے۔ دنیا انے آخرت ما اپنی حیاہ کرے چھے



جِئْتَ يَا **رَمَضَانَ** أَهْلًا
بُحَيَّاكَ السَّعِيدِ
فَمَلَّتْ الْأَرْضُ نُورًا مِنْ قَرِيبٍ وَبَعِيدٍ
أَنْتَ فِي الْعَامِ قَرِيدٍ
أَنْتَ فِي الْأَجْرِ وَحِيدٍ
تُزَلُّ الْقُرْآنُ فِيكَ وَبِهِ النُّورُ الْجَدِيدُ

شہزادہ معظم خدانے نامہینہ ہے
برکتہ و ننا مہینہ ہے ، یر مہینہ ما اپنے
پنجتن پاک ، ائمہ اطہار دعا اختیار نے اقاموں طع
نوسیلہ لٹی بندگی انے استغفار کریئے ہے

العید



الْعِيدُ جَاءَ أَهْلًا بِهِ كُلُّ الرَّجَاءِ فِي قُرْبِهِ

أَهْلًا بِهِ أَهْلًا بِهِ

حَيُّوا مَعِيَ يَا إِخْوَتِي

عِيدُ الْهِنَاءِ عِيدُ الطَّرْبُ

عِيدُ الرَّخَاءِ عِيدُ اللَّعْبُ

يَا إِخْوَتِي عِيدُ سَعِيدُ

يَا رَفَقَتِي عُمُرُ مَدِيدُ



مولانا محمد برهان الدین طع نا چہرہ مبارک دیکھو اسی مؤمن نی حقیقی عید ہے
خدا تعالیٰ مولانا محمد برهان الدین آقانی عمر شریف نے قیامۃ نادن لگ دہرائز کرے آمین